

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts. 16 = 2 x 8 سوال نمبر 2 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
- (i) Write down the important functions of Food. غذا کے اہم مقاصد تحریر کیجیے۔ (i)
- (ii) Write down the names of six Food Nutrients. چھ غذائی اجزاء کے نام تحریر کیجیے۔ (ii)
- (iii) Which are the factors that affect upon the selection of Balanced Diet? متوازن غذا کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ (iii)
- (iv) Write a note on three Basic Food Groups. غذا کے تین بنیادی گروہوں پر نوٹ لکھیے۔ (iv)
- (v) Write down the Nutritional needs of an Old Person. ایک معمر شخص کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیے۔ (v)
- (vi) Write down the types of Protein. لحمیات (پروٹین) کی اقسام تحریر کیجیے۔ (vi)
- (vii) Write down the names of essential Amino Acids. ضروری امینو تیز شوں کے نام لکھیے۔ (vii)
- (viii) Highlight the deficiency effects of Proteins. لحمیات (پروٹین) کی کمی کے اثرات پر روشنی ڈالیے۔ (viii)
- (ix) Write down some facts and suggestions about Proteins. لحمی غذاؤں کے بارے میں چند اہم حقائق اور تجاویز پیش کیجیے۔ (ix)
- (x) What are the types of Fats? روغنیات کی اقسام کون سی ہیں؟ (x)
- (xi) Narrate any four functions of Fats in our body. ہمارے جسم میں چکنائیوں کے کوئی سے چار افعال بیان کیجیے۔ (xi)
- (xii) Write a note on Patients Diet. مریض کی غذا پر نوٹ لکھیے۔ (xii)
3. Attempt any eight parts. 16 = 2 x 8 سوال نمبر 3 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
- (i) Write down any four general functions of Vitamins. حیاتیات کے کوئی سے چار عمومی افعال تحریر کیجیے۔ (i)
- (ii) Write a note on the nutritional importance of Vitamin D. وٹامن ڈی کی غذائی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ (ii)
- (iii) Which effects appear in our body due to the deficiency of Niacin? نیا سین کی کمی سے ہمارے جسم پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ (iii)
- (iv) Write down the functions of Vitamin A. حیاتیات الف (وٹامن A) کے افعال تحریر کیجیے۔ (iv)
- (v) What are the effects of the deficiency of Calcium and Phosphorus in our body? ہمارے جسم میں کیلیم اور فاسفورس کی کمی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ (v)
- (vi) Write a note on Goitre. گلہڑ کی بیماری پر نوٹ لکھیے۔ (vi)
- (vii) What are the aims of Cooking Food? خوراک کو پکانے کے مقاصد کون سے ہیں؟ (vii)
- (viii) Write down some general principles of Cooking Food. خوراک کی پکوائی کے چند عمومی اصول تحریر کیجیے۔ (viii)
- (ix) Write a note on Buffet Food Service. بونے طرز سے کھانا پیش کرنے پر نوٹ لکھیے۔ (ix)
- (x) Write down the procedure of getting skill to operate a Sewing Machine. سلائی مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیے۔ (x)
- (xi) How can you take care of your Sewing Machine? آپ سلائی مشین کی حفاظت کس طرح کر سکتی ہیں؟ (xi)
- (xii) Prepare a list of items of a Sewing Kit. سلائی مشین کے ڈبے (سیونگ کٹ) کی اشیاء کی فہرست تیار کیجیے۔ (xii)

(ورق الٹئے)

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write a short note on Nylon Fibre. (i) نائیلون کے ریشے پر مختصر نوٹ لکھیے۔
- (ii) Write down the factors that affect Wardrobe Planning. (ii) لباس کی منصوبہ بندی پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کیجیے۔
- (iii) Write any four steps of Personal Grooming. (iii) ذاتی زیبائش کے لیے کوئی سے چار اقدام تحریر کیجیے۔
- (iv) Write any four methods to identify the Fibres. (iv) ریشوں کو شناخت کرنے کے لیے کوئی سے چار طریقے لکھیے۔
- (v) Write down some characteristics of a Fabric made of Nylon Fibre. (v) نائیلون کے ریشے سے بنے کپڑے کی چند خصوصیات تحریر کیجیے۔
- (vi) Write down the procedure of getting Silk Fibre. (vi) ریشم کاریشہ حاصل کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- (vii) What do you know about a Tracing Wheel? (vii) آپ ٹریسنگ ویل کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟
- (viii) Write down any four important parts of Machine and their functions. (viii) مشین کے کوئی سے چار اہم پرزوں کے نام اور ان کے کام تحریر کیجیے۔
- (ix) Write a note on Mercerization. (ix) مرسرائزیشن پر نوٹ لکھیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. How Carbohydrates have been classified? Write down their functions and food sources. (5) کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے؟ ان کے افعال اور غذائی ذرائع تحریر کیجیے۔
6. What is the dietary importance of Iron? Write the factors of affecting its absorption. (6) فولاد کی غذائی اہمیت کیا ہے؟ اس کے انجذاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کیجیے۔
7. Write down all the steps of finishing process of the Fabric. (7) کپڑے کی تکمیلی عمل کے تمام مراحل تحریر کیجیے۔
8. Which factors are essential to consider while preparing a fabric for stitching? Write a detailed note. (8) کپڑے کی تیاری میں کن کن عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ تفصیلی نوٹ لکھیے۔
9. Write notes on the following:- (9) مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔
- (i) Characteristics of a Fabric made of Wool Fibre (i) اوننی ریشے سے بنے ہوئے کپڑے کی خصوصیات
- (ii) Scurvy (ii) سکروی

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

15 = 5 x 3

10۔ (پریکٹیکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (A) Write about the Dietary requirements of an Infant. (A) ایک شیرخوار کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیے۔
- (B) Write down the factors that affect Menu Planning. (B) فہرست طعام کی ترتیب پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کیجیے۔
- (C) Write down the procedure to judge the freshness of fruits and vegetables. (C) پھلوں اور سبزیوں کی تازگی پہچاننے کا طریقہ تحریر کیجیے۔
- (D) Write down the Machine troubles and the ways of their remedies. (D) سلائی مشین کی خرابیاں اور انہیں دور کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- (E) Write down the basic principles of drafting. (E) ڈرافٹنگ کے بنیادی اصول تحریر کیجیے۔

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) One gram of Protein provides the calories:- پروٹین کے ایک گرام سے حراروں کی تعداد ملتی ہے۔ (1)
 (A) Four چار (B) Six چھ (C) Nine نو (D) Twelve بارہ
- (2) Simplest form of protein is:- لحمیات (پروٹین) کی سادہ ترین شکل ہے۔ (2)
 (A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فکٹوز (C) Amino Acids امینو ایسڈز (D) Fatty Acids چکنے ٹرے
- (3) Dextrine is a:- ڈیکسٹریں ایک _____ ہے۔ (3)
 (A) Monosaccharide یک شکر مرکب (B) Disaccharide دو شکر مرکب (C) Polysaccharide کثیر شکر مرکب (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (4) Cellulose digesting enzymes are found in:- سیلولوز کو ہضم کرنے والے خامرے پائے جاتے ہیں۔ (4)
 (A) Humans انسانوں میں (B) Animals جانوروں میں (C) Plants پودوں میں (D) Insects حشرات میں
- (5) Simplest form of Fats is:- چکنائیوں کی سادہ ترین شکل ہے۔ (5)
 (A) Amino Acids and Sulphur امینو ٹرے اور سلفر (B) Fatty Acids and Glucose فیٹی ایسڈز اور گلوکوز (C) Fatty Acids and Glycerol فیٹی ایسڈز اور گلیسرول (D) Fatty Acids and Folic Acid فیٹی ایسڈز اور فولک ایسڈ
- (6) The disease of Beriberi suffers due to the deficiency of:- بیبری بیماری کا مرض _____ کی کمی سے لاحق ہوتا ہے۔ (6)
 (A) Vitamin B1 وٹامن بی 1 (B) Vitamin B2 وٹامن بی 2 (C) Vitamin B6 وٹامن بی 6 (D) Vitamin B12 وٹامن بی 12
- (7) Vitamin _____ is responsible for blood clotting. خون کے انجماد میں وٹامن _____ کردار ادا کرتا ہے۔ (7)
 (A) A اے (B) D ڈی (C) E ای (D) K کے
- (8) For making the proper Bias of cloth the angle should be of:- کپڑے کی مناسب ترچھان کاٹنے ہونے اس کا زاویہ رکھنا چاہئے۔ (8)
 (A) 45° (B) 90° (C) 120° (D) 180°
- (9) Rough and overlapped fibre is of:- کھردرا اور تہہ در تہہ ریشہ ہوتا ہے۔ (9)
 (A) Cotton کاتن کاریشہ (B) Linen لینن کاریشہ (C) Wool اون کاریشہ (D) Silk ریشم کاریشہ
- (10) Polyester is a fibre which is:- پولی ایسٹر ایک ہے۔ (10)
 (A) Natural قدرتی ریشہ (B) Man made انسان کا خود ساختہ ریشہ (C) Chemical کیمیائی ریشہ (D) Mixed fibre ملا جلا ریشہ
- (11) The longest fibre is:- سب سے لمبا ریشہ ہے۔ (11)
 (A) Cotton fibre کاتن کاریشہ (B) Wool fibre اون کاریشہ (C) Linen fibre لینن کاریشہ (D) Silk fibre ریشم کاریشہ
- (12) Twill weave has a characteristic to make a _____ design on the Fabric. ٹویل بنائی کی خصوصیت ہے کہ اس سے کپڑے پر ڈیزائن بنتا ہے۔ (12)
 (A) Flowery پھولدار (B) Wavy لہریں دار (C) Straight lined سیدھی لائن والا (D) Diagonal lined ڈیگنل لائن والا
- (13) The finishing process in which fabric is passed through a steamed roller is called:- جس تکمیلی عمل میں کپڑے کو بھاپ دار رولر سے گزارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ (13)
 (A) Calendering کیلنڈرنگ (B) Bleaching بلیچنگ (سفید کرنا) (C) Mercerization مرسرائزیشن (D) Napping نپنگ (روئیں دار بنانا)
- (14) The long, rounded and bamboo like pattern is a fibre of:- لمبا، گول اور بانس جیسے ڈیزائن والا ریشہ ہوتا ہے۔ (14)
 (A) Cotton کاتن کا (B) Linen لینن کا (C) Silk ریشم کا (D) Wool اون کا
- (15) If the wrap and weft make the exact angle of 90°, it is called:- اگر تانا بانا بالکل 90° کا زاویہ بنائے تو اسے کہتے ہیں۔ (15)
 (A) Bias ترچھان (B) Selvedge کتنی (C) Grain line گرین لائن (D) Off Grain Line آف گرین لائن
- (16) Colour of Drafting Paper is:- ڈرافٹنگ کے کاغذ کا رنگ ہوتا ہے۔ (16)
 (A) White سفید (B) Black سیاہ (C) Blue نیلا (D) Brown براؤن
- (17) The most flexible/stretchable fibre among fibres is:- ریشموں میں سب سے زیادہ کھیجا جانے والا ریشہ ہے۔ (17)
 (A) Wool اون (B) Silk ریشم (C) Cotton کاتن (D) Linen لینن

**BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,
MULTAN ✓**
OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART II) SUPPLY Examination, 2016.

Name of Subject عمومی انگریزی Session II

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8211			
1.	C			
2.	C			
3.	C			
4.	C			
5.	C			
6.	A			
7.	D			
8.	A			
9.	C			
10.	B			
11.	D			
12.	D			
13.	A			
14.	B			
15.	C			
16.	D			
17.	A			
18.				
19.				
20.				

مہربانگی کی بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/مارکنگ کی Key

ہم نے مضمون پر **سوم نام** پرچہ **II** گروپ: **سکیم** انٹر ملانہ ضمنی امتحان 2016ء کا سوالیہ پرچہ انٹرایم معروضی (Subjective & Objective) کو نظر میں چیک کر لیا ہے یہ پرچہ سلیبس کے تین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور سلیبس (Syllabus) کے مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بھی درست بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔

PREPARED & CHECKED BY

Sr.No	Name	Designation	Institution	Mobile No.	Signature.
1	Maliha Awad	A.P	G.C.H.E Multan	03217326563	Maliha Awad